



گورنر KATHY HOCHUL

فوری ریلیز کے لیے: 21/2/2023

گورنر HOCHUL کی جانب سے مالی سال 2024 کے انتظامی بجٹ کے جزو کے طور پر مڈ-ہڈسن علاقائی سرمایہ کاریاں اجاگر

بجٹ میں رہائشی بنیادی ڈھانچے کو فنڈ دینے کے لیے \$250 ملین؛ منصوبہ بندی میں مدد کے لیے \$20 ملین شامل ہیں

محکمہ ٹرانسپورٹیشن کے سرمائے والے منصوبوں میں \$240 ملین اور مقامی سڑکوں کی مرمت کے لیے \$27 ملین شامل ہیں

گورنر Kathy Hochul نے آج اپنے مالی سال 2024 کے انتظامی بجٹ میں نیو یارک کے مڈ-ہڈسن کے علاقے میں ملازمتوں میں اضافے اور معیشت کو فروغ دینے کے لیے اہم تجاویز کے حوالے سے تفصیلات کا اعلان کیا۔ سالانہ ریاستی خطاب 2023 کے مطابق، بجٹ میں ہاؤسنگ سپلائی کو بڑھانے اور خطے میں اقتصادی مواقع اور اختراعی عمل میں توسیع کے لیے ایک بڑی سرمایہ کاری شامل ہے۔

گورنر Hochul نے کہا، "مڈ ہڈسن کے علاقے میں رہائش، تعلیم، اور بنیادی ڈھانچے میں یہ اہم سرمایہ کاریاں مقامی علاقے اور معیشت کو اوپر اٹھانے کے لیے اہم ہیں۔ یہ فنڈنگ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے پہلے سے جاری کوششوں پر استوار ہے کہ یہ خطہ محفوظ، سستا، اور مستقبل کے چیلنجز کے لیے لچکدار ہے -- آنے والی نسلوں کے لیے مڈ ہڈسن کا ایک زیادہ خوشحال خطہ تشکیل دے رہا ہے۔"

گورنر Hochul نے جن بجٹ تجاویز کا آج اعلان کیا ہے ان میں سے کئی سنہ 2023 کے ریاستی خطاب میں اعلان کردہ [اقتصادی اختراعی منصوبے](#) سے ہم آہنگ ہیں جن کا مقصد مطلوبہ سرمایہ کاریوں، کاروباری معاونت اور بلند شرح نمو کی حامل صنعتوں کو مدنظر رکھنے والی دیگر پروگرامنگ کے ذریعے پوری ریاست نیو یارک میں معاشی مواقع اور اختراعات کو بڑھا کر ملازمتوں اور کاروباروں کو بڑھانا ہے۔ گورنر کے بجٹ میں اعلیٰ تعلیم میں سرمایہ کاری کرنے اور ریاست بھر میں مقامی پُرکشش مقامات کو بہتر بنانے کی کئی پہل کاریاں شامل ہیں۔ مڈ ہڈسن خطے کے لیے، منصوبے میں شامل ہے:

- مڈ ہڈسن وادی کے علاقے کے لیے تعلیمی امداد کی مد میں \$3.6 بلین
- فاؤنڈیشن ایڈ کی مد میں \$451.5 ملین کا اضافہ
- ہندوق کے پُر تشدد استعمال کو کم کرنے کے لیے \$337 ملین کا منصوبہ
- \$250 ملین کا رہائشی بنیادی ڈھانچے کا فنڈ اور \$20 ملین منصوبہ بندی میں مدد کے لیے
- محکمہ ٹرانسپورٹیشن (DOT) کے سرمائے کے منصوبوں میں \$240 ملین، بشمول:
 - پُل کی مرمت/تبدیلی کے لیے \$51 ملین
 - کنگسٹن میں ورٹس سٹریٹ پُل کے لیے \$45 ملین
 - نئے روٹ 17 کے ریمپوں کے لیے \$30 ملین
 - بیئر ماؤنٹین سٹیٹ پارک کے لیے \$60 ملین ڈالر
 - \$57 ملین انسدادِ منشیات کے شعبوں کی فنڈنگ

- \$45 ملین برائے GO SEMI: گورنر کے دفتر برائے سیمی کنڈکٹر کی توسیع، انتظام اور انضمام، جو بالائی ریاست نیو یارک میں سیمی کنڈکٹر مینوفیکچرنگ انڈسٹری کی توسیع میں معاونت دے گا۔

- مقامی سڑکوں کی مرمت کے لیے \$27 ملین

- بیلائیر ماؤنٹین کے لیے \$14.8 ملین

- سابقہ فوجیوں کی پیئر ٹو پیئر سروسز کے لیے \$1.3 ملین

- نواحی علاقوں اور دیہی تحفظ کی رہائشی فنڈنگ کے لیے \$1.5 ملین

ایمپائر سٹیٹ ڈویلپمنٹ کی صدر، سی ای او اور کمشنر Hope Knight نے کہا، "مڈ ہڈسن کا علاقہ، جہاں مشہور قدرتی خوبصورتی ہے اور اعلیٰ درجے کی تعلیم اور اختراع کا مرکز ہے، نے حالیہ برسوں میں سیاحوں اور نئے رہائشیوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے۔ گورنر Hochul کا ایگزیکٹو بجٹ اضافی رہائش، بنیادی ڈھانچے اور اقتصادی مواقع میں تزویراتی سرمایہ کاری کی ضرورت کو تسلیم کرتا ہے جو خطے کی طویل المعیاد ترقی میں معاونت کرے گا اور اسے یقینی بنائے گا۔"

###

اضافی خبر یہاں ملاحظہ کی جا سکتی ہے www.governor.ny.gov
ریاست نیو یارک | ایگزیکٹو چیمبر | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418